

COVID ہے یا سردی؟

آپ کو محفوظ اور بیماری کی چھٹی کا حق حاصل ہے



یہ قانون ہے۔ اگر آپ نجی آجر کے لیے، بشمول گھریلو کارکنوں کے بطور کام کرتے ہیں تو، آپ خود کی یا فیملی کی نگہداشت کرنے کے لیے سال میں 40 یا 56 گھنٹے تک کی چھٹی لے سکتے ہیں۔ COVID-19 یا صحت یا سلامتی کی دیگر وجوہات کے مدنظر۔

مزید جانیں یا شکایت درج کرانے کے لیے:

NYC
Consumer and
Worker Protection

nyc.gov/workers ملاحظہ کریں | **311** پر کال کریں اور "Paid Safe and Sick Leave Law"

(با معاوضہ محفوظ اور بیماری کی چھٹی کا قانون) بولیں

پیٹ میں درد یا بخار ہے؟ آپ کو محفوظ اور بیماری کی چھٹی کا حق حاصل ہے



یہ قانون ہے۔ اگر آپ نجی آجر کے لیے، بشمول گھریلو کارکنوں کے بطور کام کرتے ہیں تو، آپ خود کی یا فیملی کی نگہداشت کرنے کے لیے سال میں 40 یا 56 گھنٹے تک کی چھٹی لے سکتے ہیں۔ COVID-19 یا صحت یا سلامتی کی دیگر وجوہات کے مدنظر۔

مزید جانیں یا شکایت درج کرانے کے لیے:

NYC
Consumer and
Worker Protection

nyc.gov/workers ملاحظہ کریں | **311** پر کال کریں اور "Paid Safe and Sick Leave Law"

(با معاوضہ محفوظ اور بیماری کی چھٹی کا قانون) بولیں

طبی چیک اپ یا ضرر لاحق ہے؟ آپ کو محفوظ اور بیماری کی چھٹی کا حق حاصل ہے



یہ قانون ہے۔ اگر آپ نجی آجر کے لیے، بشمول گھریلو کارکنوں کے بطور کام کرتے ہیں تو، آپ خود کی یا فیملی کی نگہداشت کرنے کے لیے سال میں 40 یا 56 گھنٹے تک کی چھٹی لے سکتے ہیں۔ COVID-19 یا صحت یا سلامتی کی دیگر وجوہات کے مدنظر۔

مزید جانیں یا شکایت درج کرانے کے لیے:

NYC
Consumer and
Worker Protection

nyc.gov/workers ملاحظہ کریں | **311** پر کال کریں اور "Paid Safe and Sick Leave Law"

(با معاوضہ محفوظ اور بیماری کی چھٹی کا قانون) بولیں

COVID کے سبب اضطراب یا افسردگی ہے؟

آپ کو محفوظ اور بیماری کی چھٹی
کا حق حاصل ہے



یہ قانون ہے۔ اگر آپ نجی آجر کے لیے، بشمول گھریلو کارکنوں کے بطور کام کرتے ہیں تو، آپ خود کی یا فیملی کی نگہداشت کرنے کے لیے سال میں 40 یا 56 گھنٹے تک کی چھٹی لے سکتے ہیں۔ COVID-19 یا صحت یا سلامتی کی دیگر وجوہات کے مدنظر۔

مزید جانیں یا شکایت درج کرانے کے لیے:

NYC
Consumer and
Worker Protection

nyc.gov/workers ملاحظہ کریں | **311** پر کال کریں اور "Paid Safe and Sick Leave Law"

(با معاوضہ محفوظ اور بیماری کی چھٹی کا قانون) بولیں